

## عنصر المعالی کیکاؤس

امیر عنصر المعالی کیکاؤس بن اسکندر بن قابوس ۳۱۲ ہجری بمطابق ۱۰۲۶ء میں ایران کے مشہور زیاری خاندان میں پیدا ہوئے۔ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں گرگان، گیلان اور طبرستان کے علاقوں میں اس خاندان کی حکومت تھی۔ عنصر المعالی نے مروجہ علم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ ۷۵۰ء میں انہوں نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کی تربیت کر لی "نصیحت نامہ" کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کو عرف عام میں "قابوس نامہ" کہا جاتا ہے۔ عنصر المعالی کا سالِ وفات معلوم نہیں، البتہ یہ طے ہے کہ وہ ۷۵۰ء تک ضرور زندہ تھے۔

یہ کتاب ایک دیباچہ اور چالیس ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں راہنمایاصول بیان کیے گئے ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں اپنی زندگی کے رنگارنگ تجربیات اور مشاهدات کا نجusz پیش کر دیا ہے۔ اُن کالب ولہجہ اتنا پر خلوص، سادہ اور درد مندانہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔

قابوس نامہ پانچویں صدی ہجری کی فارسی نثر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کا اسلوب نگارش سادہ، سلیس، اور دلچسپ ہے۔ اہم حکایات اور اپنی زندگی کے مختلف واقعات کی مدد سے مصنف نے خودی، خود داری، قناعت، جُسْنِ اخلاقی اور دیانتداری کا درس دیا ہے۔ "قابوس نامہ" میں اپنے عہد کی تقافت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ دنیا کی بہت سی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔



## پند های قابوس نامه

بِدان آی پُسر که مردم بی هُنر دایم بی سود بود، چون مُغیلان که تن دارد و سایه ندارد، نه خود را سُود گند و نه غیر را. بِدان که از همه هُنرها بهترین، سخن گفتن است. جهد گُن تا سخن بر جای گویی- سخن نا پرسیده مگوی واز گفتار خیره پر هیز گُن، چون باز پُرسند، جُز راست مگوی. و تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مَدِه. ازیار بد اندیش و بد آموز بگریز. تابتوانی، نیکی از کس دریغ مدار که نیکی یک رُوز بَر دهد. به فضل و هُنر خویش غرَه میباش و پندار که توهمه چیزی بدانستی.

بِدان آی پُسر که مردمان تازنده باشند، ناگزیر باشند از ڈوستان. دوست نیک، گنجی بُزرگ است. چون دوست نوگیری، پُشت با ڈوستان گُهن مَگُن. هر که از ڈوستان نیند یشد، ڈوستان نیزار و نیند یشنند. با مردمان دوستی میانیه (ار). بر ڈوستان به امیّد، دل مَبَند که من ڈوستان بسیار دارم. دوست خاصه خویش، خود باش. دوستی که بی جرم، دل از تو بردارد، به باز آوردن او مشغول میباش. و نیزار دوستی طامع ڈور باش که دوستی او باتو، به طَمَع باشد نه به حقیقت.

بِدان آی پُسر که مَن پیر شَدَم و ضعیفی و بی نیرویی بر من چیره شد. من نام خویش را در دایره گزشتگان یافتم. اگر تواز گفتار من بهره نیکی نجوبی، جویند گان دیگر باشند که شنو دن و کار بستن نیکی غنیمت دارند. اگرچه سرشت روز گار بر آن است که هیچ پُسر، پند پدر خویش را کار بند نیاشد، چه آتشی در دل جوانان است، از رُوی غفلت، دانش خویش برتر از دانش پیران بینند. اگرچه این سخن مرا معلوم بود. میهربانی مرا انگذاشت که خاموش باشم.

## فرهنگ

مُغيلان :	خاردار جهازی -
سُود :	فائده -
برجای :	اپنے مقام پر، مناسب، صحیح
خیرہ :	فضول، بیہودہ
بداندیش :	(اندیشیدن: سوچنا..... اندیشد مضارع اندیش: امر ..... بد+اندیش) برا سوچنے والا -
بدآموز :	آموختن: سیکھنا / سکھانا، آموزد مضارع آموز: امر بد + آموز -
غَرَه :	بری باتیں سکھانے والا - مغور
ناگزیر :	جس کے بغیر چارہ نہ ہو -
میانہ :	معتدل، متوازن -
بھی نیرویی :	بھی طاقتی، کمزوری
چبرہ :	غالب -
گذشتگان :	(گذشته کی جمع) گزٹے ہوئے لوگ، مرحومین -
بھرہ نیکی نجوبی :	(بھرہ جستن: حصہ لینا، فائدہ اٹھانا) تو صحیح فائدہ نہ اٹھائے -
جویند گان :	(جستن: ڈھونڈنا۔ جوید مضارع۔ جوی امر، بھوی + نہ: ڈھونڈنے والا) جویندہ کی جمع، ڈھونڈنے والے لوگ -
سرشت :	فطرت، روش، معمول -

## تمرین

- ۱- تہترین ہنرها چسیت؟
- ۲- دوست نیک چہ اہمیتی دارد؟
- ۳- چرا باید از دوست طامع دور باشیم؟
- ۴- چرا نویسنده نامِ خویش رادر دایرہ گذشتگان می یابد؟
- ۵- چرا جوانان، دانش خویش را برتر می دانند؟
- ۶- سبق میں استعمال ہونے والے افعال امر و نہی الگ الگ لکھیے۔
- ۷- واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیں:  
پسر۔ سخن۔ مردمان۔ دوستان۔ پیر۔ گذشتگان۔ جویند گان۔
- ۸- مندرجہ ذیل افعال کے مصادر اور ان کے معانی لکھیں: دارد۔ پُرسند۔ میندار۔ تینند۔ یافتم